


sec-HEXYL ACETATE	سیکنڈری ہیپٹائل ایسی ٹیٹ	ICSC: 1335	
CAS # 108-84-9 RTECS # SA7525000 UN # 1233 EC # EINECS# 203-621-7 UN Hazard class: 3	دیگر نام: 1,3-Dimethylbutyl acetate Methylisoamyl acetate Acetic acid, 1,3-dimethylbutyl ester 4-Methyl-2-pentanol, acetate فارمولا: $C_8H_{16}O_2 / CH_3COOCH(CH_3)CH_2CH(CH_3)_2$ سالماتی وزن: 144.2		
ابتدائی طبی امداد اور آگ پر قابو پانا	بچاؤ	شدید خطرات \ علامات	خطرے کی قسم
پاؤڈر، الکوحل برداشت کرنے والی فوم، پانی کا سپرے، کاربن ڈائی آکسائیڈ	کھلے شعلے، چنگاری اور سگریٹ نوشی سختی سے منع میں .	آتش گیر مادہ	آگ:
آگ لگنے کی صورت میں ڈرموں وغیرہ پر پانی کا چھڑکاؤ کر کے ٹھنڈا رکھیں	45 سنٹی گریڈ سے اوپر بند سٹم ہوا کی آمدورفت اور دھماکہ پروف بجلی کے آلات استعمال کریں	45 سنٹی گریڈ سے اوپر بخارات اور ہوا کا دھماکہ خیز آمیزہ بن سکتا ہے	دھماکہ:
			جسم میں داخلہ:
تازہ ہوا میں لے جائیں، آرام دلائیں	ہوا کی آمدورفت، لوکل ایگزاسٹ یا آلات تنفس کا انتظام کریں	کھانسی لگنے کی خرابی	سانس کے راستے:
خراب شدہ کپڑے اتار دیں پانی بہائیں پھر جلد کو پانی اور صابن سے دھوئیں	حفاظتی دستا نے استعمال کریں	سرخی	جلد کے راستے:
پہلے کئی منٹ تک پانی سے ابھی طرح دھوئیں پھر ڈاکٹر کے پاس لے جائیں .	حفاظتی چشمے استعمال کریں	سرخی .	آنکھوں میں پڑنا:
پانی سے منہ اندر سے صاف کریں .			نگلنے کی صورت میں:
پیکٹ کرنا اور لیبل لگانا:		بکھرنے کی صورت میں اقدامات:	
		رستے ہونے اور بہتے ہوئے مائع کو ممکن حد تک سیل ہونے والے ڈبوں یا برتنوں میں اکٹھا کریں . بقیہ مائع کو یاریت وغیرہ میں جذب کر کے محفوظ جگہ پر پہنچا دیں . غیر معمولی ذاتی تحفظ کی ضرورت نامیاتی گیٹوں یا بخارات سے تحفظ والے فلٹروالا ماسک استعمال کریں	
ذخیرہ کرنا:		ہنگامی اقدامات:	
غیر آتش گیر جگہ پر رکھیں . طاقتور تکیدی عوامل سے علیحدہ رکھیں		Transport Emergency Card: TEC (R)-[30G35] NFPA Code: H[1]; F[2]; R[0]	
اہم معلومات پشت پر ملاحظہ فرمائیں			

sec-HEXYL ACETATE	سیکنڈری ہیکسائل ایسی ٹیٹ	ICSC: 1335
اہم معلومات		
<p>طبعی حالت: بے رنگ مائع مخصوص بو کے ساتھ</p> <p>کیمیائی خطرات: یہ طاقتور تکسیدی مادوں کے ساتھ عمل کرتا ہے</p> <p>ہوا میں مقررہ حدود:</p> <p>TLV . ہوا میں مقررہ حد:</p> <p>(TLV: 50 ppm; 295 mg/m³ (as TWA) (ACGIH 1997 (MAK: 50 ppm; 300 mg/m³; I (1996</p>	<p>جسم میں داخلے کے راستے: یہ مادہ جسم میں اس کے بخارات میں سانس لینے سے جذب ہو سکتا ہے</p> <p>سانس کے راستے داخلے کے اثرات: 20 سنٹی گریڈ سے اوپر اس کی مقدار ہوا میں آہستہ آہستہ بڑھ کر خطرناک حد تک پہنچ جائے گی</p> <p>مختصر مدت کے لیے جسم میں داخلے کے اثرات: آنکھوں میں جلد پر سانس کی نالی میں سوزش پیدا ہوتی ہے بدن پر بڑی مقدار میں اثر انداز ہونے کا نتیجہ بے نوشی کی صورت میں نکل سکتا ہے</p>	
طبعی خواص		
<p>نقطہ جوش: [146] سنٹی گریڈ</p> <p>نقطہ پگھلاؤ: [-64] سنٹی گریڈ</p> <p>کثافت انسانی (بالمقابل پانی = 1): 0.86</p> <p>پانی میں حل پذیری (گرام فی 100 ملی لٹر): بالکل نہیں</p>	<p>فلش پوائنٹ: 45°C c.c</p> <p>20 سنٹی گریڈ پر بخارات کی کثافت انسانی (بمقابل ہوا = 1): 1.01</p> <p>بخارات کی کثافت انسانی: 5.0</p> <p>20 سنٹی گریڈ پر بخاراتی پریشر: [0.4] Kpa</p>	
ماحولیاتی اعداد و شمار		
نوٹس (Notes)		
مزید معلومات:		
LEGAL NOTICE	Neither the CEC nor the IPCS nor any person acting on behalf of the CEC or the IPCS is responsible for the use which might be made of this information.	
© IPCS, CEC 1999		
<p>IPCS International Programme on Chemical Safety</p>		<p>Prepared in the context of cooperation between the International Programme on Chemical Safety and the Commission of the European Communities C IPCS, CEC 1999</p>